



سوال

(266) کیا نماز تراویح کی جماعت اور جمع قرآن بدعات ہیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

لوگوں کو جب بدعات سے روکا جاتا ہے تو عام طور پر انکا جواب یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی تراویح اور قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا بدعت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جانا چاہئے۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بدعتی لوگوں کو سمجھانے کے لئے بدعات کی ممانعت میں وارد احادیث مبارکہ سنائی جائیں۔ نبی کریم نے فرمایا۔

«وایکم ومجتمعات الامور فان کل محدث بدعة، وکل بدعة ضلالة» أخرجه أبو داود (4067)

"تمہیں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو؛ کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے"

نبی کریم نے فرمایا۔

«إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثات، وکل محدث بدعة، وکل بدعة ضلالة، وکل ضلالة في النار» أخرجه هذا اللفظ الترمذی فی سننه (3/188)

"یقیناً سب سے زیادہ سچی بات کتاب اللہ ہے، اور سب سے احسن اور بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب سے برے امور اس کے نئے ایجاد کردہ ہیں، اور ہر نیا ایجاد کردہ کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں ہے"

نبی کریم نے فرمایا۔

«من أحدث فی أمرنا ما لیس منہ فودع» أخرجه البخاری (2697) ومسلم (1718)

"جس کسی نے بھی ہمارے اس امر (دین) میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے"



اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی نہیں سمجھتا تو یاد رکھیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔

باقی رہا نماز تراویح کی جماعت اور قرآن مجید جمع کرنے کا مسئلہ تو یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ تین دن تک نماز تراویح کی جماعت اور عہد نبوی میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا معاملہ خود نبی کریم سے بھی ثابت ہے، اور ہر وہ چیز جو نبی کریم سے ثابت ہو بدعت نہیں ہو سکتی۔

ہدایا محمدی والنداء علم بالصواب

فتاویٰ شناسیہ

جلد 2